



سوال

کیا یہ بات ثابت ہے کہ آخرت میں اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے؟

جواب

الحمد للہ

اللہ تعالیٰ کی لپٹنے بندوں پر نعمتیں لاتعداد ہیں، پھر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خصوصی احسانات سے نوازا کہ انہیں دین اسلام اپنانے کی توفیق دی، انہیں قرآن کی دولت سے نوازا، اور پھر جنت میں بھی انہیں ایسی نعمت سے نوازے گا کہ وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور وہ ہے جنت عدن میں اللہ تعالیٰ کا دیدار، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ:

وَجُودًا لِمَنْبِتَانَا ضَرَّةً [22] اِلَى رَبِّنَا نَاظِرَةً

ترجمہ: اس دن کچھ چہرے تروتازہ ہوں گے، اور لپٹنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ [القیامہ: 22-23]

یعنی اہل ایمان کے چہرے خوبصورت، تروتازہ اور پر مسرت اس لیے ہوں گے کہ انہوں نے لپٹنے رب کا دیدار کر لیا ہے، اسی لیے حسن رحمہ اللہ کہتے تھے: "اہل ایمان کی نظر لپٹنے رب پر پڑی تو رب کے نور کی وجہ سے صاحب نصارت [تروتازگی] ہو گئے"

ایسے ہی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ: **وَجُودًا لِمَنْبِتَانَا ضَرَّةً** یعنی چہرے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے تروتازہ ہوں گے۔ **اِلَى رَبِّنَا نَاظِرَةً** یعنی: چہرے لپٹنے رب کی طرف حقیقت میں دیکھ رہے ہوں گے۔ یہی موقف محدثین اور اہل سنت مفسرین کا ہے۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَمَّا تَأْتِيَاءُ وَنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

ترجمہ: ان کے لیے جنت میں من چاہی چیزیں ہوں گی، اور ہمارے پاس مزید انعام بھی ہے۔ [ن: 35]

یہاں مزید انعام میں سے مراد اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے، جیسے کہ یہی تفسیر سیدنا علی اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔

اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا نَجْزِي وَزِيَادَةٌ

ترجمہ: نیکیاں کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ اور اضافی انعام ہے۔ [یونس: 26]

تو یہاں پر بہترین بدلہ سے مراد جنت اور اضافی انعام سے مراد اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے، اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے، جیسے کہ صحیح مسلم: (266) میں ہے کہ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا: تمہیں کوئی چیز چاہیے جو تمہیں مزید عطا کروں؟ جنتی جواب دیں گے: کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟! کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور دوزخ سے نجات نہیں دی؟) [یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز عطا ہو سکتی ہے؟] آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دے گا تو انہیں کوئی چیز ایسی عطا نہیں ہوگی جو انہیں لپٹنے رب عزوجل کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو۔) پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: **لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا نَجْزِي وَزِيَادَةٌ**



جب آپ کو یہ علم ہو گیا کہ اہل جنت کو دیدار الہی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ملے گی تو اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جن مجرموں کو دیدار الہی سے محروم کیا جائے گا وہ کتنے خسارے اور محرومی میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ایسے مجرموں کے بارے میں دھمکی دیتے ہوئے فرمایا:

كَلَّا اَنَّمْ عَنْ رَبِّهِمْ لَوْمَاتٍ يُنْفَخُونَ

ترجمہ: یقینی بات ہے: بلاشبہ انہیں اس دن ان کے رب سے دور رکھا جائے گا۔ [المطففين: 15]

امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد بیح بن سلیمان امام شافعی رحمہ اللہ سے بڑی پیاری بات نقل کرتے ہیں کہ: میں محمد ابن ادریس شافعی رحمہ اللہ کے پاس آیا تو آپ کے پاس کسی کا رقبہ موجود تھا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ: آپ فرمان باری تعالیٰ: **كَلَّا اَنَّمْ عَنْ رَبِّهِمْ لَوْمَاتٍ يُنْفَخُونَ** کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا: "جس وقت ناراضی میں مجرموں کو اللہ تعالیٰ سے دور رکھا گیا تو اس میں دلیل ہے کہ حالت رضا میں اللہ کے ولیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا۔"

ذیل میں کچھ دلائل موجود ہیں جو کہ اہل ایمان جنت میں پروردگار کا دیدار کریں گے۔

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے چند دلائل درج ذیل ہیں:

1- سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: (کیا چودھویں رات کا چاند دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟) لوگوں نے عرض کیا: نہیں یا رسول اللہ! پھر آپ نے پوچھا: (کیا جب بادل نہ ہوں تو تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟) لوگوں نے کہا: نہیں یا رسول اللہ! تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (پھر تم اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔۔۔) اس حدیث کو امام بخاری: (6088) اور مسلم: (267) نے روایت کیا ہے۔

صحیح بخاری کی ایک روایت میں عربی الفاظ **لَا تَنْظُرُونَ** یا **لَا تَنْظُرُونَ** شک کے ساتھ بیان ہوتے ہیں، کوئی بھی لفظ ہو بہر دو صورت میں مطلب یہ ہے کہ: تمہیں دیدار الہی میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوگا، نہ ہی ایسا ہوگا کہ کچھ کو دیدار ہو اور کچھ کو دیدار نہ ہو، نیز دیدار الہی میں تمہیں کسی قسم کی تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم
مختصر امانوذا شرح صحیح مسلم

2- سیدنا جرید بن عبد اللہ بنکلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چودھویں رات کو ہمارے پاس تشریف لائے اور چودھویں کے چاند کو دیکھ کر فرمایا: تم اپنے رب کو قیامت کے دن اس طرح اپنی آنکھوں سے دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں تمہیں کسی مزاحمت کا سامنا نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو امام بخاری: (6883) اور مسلم: (1002) نے روایت کیا ہے۔

ان احادیث مبارکہ میں تشبیہ صرف دیکھنے میں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم سورج کو صاف مطلع والے دن بالکل واضح دیکھتے ہیں، اس سورج کو دیکھنے والے کتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی کسی دوسرے کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں بنتا، اسی طرح دیدار الہی کے وقت بھی کوئی کسی کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے چودھویں رات کے مکمل چاند کو بالکل واضح طور پر ہم دیکھتے ہیں، اسے دیکھنے والے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں چودھویں کے چاند کی روشنی ماند نہیں پڑتی، بالکل اسی طرح اہل ایمان بھی قیامت کے دن مکمل واضح طور پر دیدار الہی کریں گے۔ لہذا ان احادیث مبارکہ میں یہ نہیں ہے کہ - نعوذ باللہ - ذات باری تعالیٰ سورج یا چاند کی مانند نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا کوئی نہیں ہے وہ سننے والی اور دیکھنے والی ذات ہے۔

3- سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (دو جنتیں ہیں جس کے برتن اور ہر چیز چاندی کی ہے۔ اور دو جنتیں سونے کی ہیں کہ اس میں برتن اور ہر چیز سونے کی ہے۔ جنت عدن میں لوگوں اور چہرہ الہی کے دیدار کے درمیان صرف کبریائی کی چادر ہے۔) اس حدیث کو امام بخاری: (4500) اور مسلم: (6890) نے روایت کیا ہے۔

